



سوال

(190) حکومتی اراضی جو ضرورت سے زائد ہو اسے مسجد کے لیے استعمال کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا گورنمنٹ کی ایسی جگہ پر مسجد تعمیر ہو سکتی ہے جس کا اکثر حصہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے البتہ کچھ حصے کی منظوری نہیں ہے جبکہ یہ حصہ تقریباً ۳۵ سال سے عملاً مسجد میں شامل ہے۔ (عبدالقیوم، رئیس دارالعلوم محمدیہ)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حکومت کی جگہ ضرورت سے زائد ہو تو اس کو زیر استعمال لانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ شرعاً قومی مال میں اصل چیز تصرف کا جواز ہے بشرطیکہ گزرگاہ کے لئے تنگی کا باعث نہ بنے۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب قائم کیا ہے: باب المسجد یكون فی الطريق من غیر ضرر بالناس

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فتح الباری ۵۶۳ و ۱۸۵۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

کتاب المساجد: صفحہ: 189

محدث فتویٰ